

か 9課

ごみを だす

کچرا نکال کر رکھنا



もくひょう
目標
مقصد

1. ごみを ^わ分けます
کچرا کو الگ الگ کر کے رکھنا

2. わからないとき ^{ひと}人に ききます
سمجھ نہ اے تو کسی سے پوچھ لیں

3. ごみを ^だ出します
کچرا نکال کر رکھنا

0.

benkyou no mae ni
pzhayai se pehle

itsumo doko ni gomi o dashimasu ka.
ap am toro per اپنا کچرا کہاں پھینکتے ہیں۔




gomi o dashimasu
kchra nkal kr rkhnna

gomi bako
kchre ka dha



gomi bukuro
kchre ka theela

gomi gomi
kchra



gomi okiba / gomi suteba
kchra pheinakne ki jage



1.

ごみを^わ分けます کچرا کو الگ الگ کر کے رکھنا

どうしてごみをわけますか
کچرا کیوں الگ کرتے ہیں



ごみをわけます
gomi o wakemasu
کچرا کو الگ الگ کر کے رکھنا



しげんごみ
shigengomi
ری سائیکل ہونے والا کچرا کرکٹ



リサイクルします
risaikuru shimasu
ری سائیکل کرنا



わたしのまちの
リサイクル

あなたの町で資源ごみがどのようにリサイクルされているかわかります。
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے شہر میں قابل ری سائیکل کچرے کو کس طرح ری سائیکل کیا جاتا ہے۔

<https://www.jcpra.or.jp/mytown/tabid/1063/index.php>

(公財) 日本容器包装リサイクル協会
The Japan Containers and Packaging Recycling Association



ただしいごみぶくろをつかいます
صحیح کچرے کے تھیلے کا استعمال کریں



ごみぶくろ
کچرے کا تھیلا



も
燃えるゴミ
moeru gomi

جلنے والا کچرا



も
燃えないゴミ
moenai gomi

نہ جلنے والا کچرا



かん
缶・びん・ペットボトル
kan·bin·pettobotoru

کین بوتل پانی کی بوتل



プラスチック
purasuchikku


پلاسٹک

なんしゅるい
あなたのまちに 何種類 ごみぶくろが ありますか。
آپ کے شہر میں کتنی قسم کے کچرے کے تھیلے ہیں۔

آپ کس کچرے کے تھیلے میں کچرا ڈالتے ہیں
 どの ごみぶくろに いきますか



① しょくひんトレイ
shokuhin toree



② ペットボトル
pettobotoru



③ スプレーかん
supuree kan



④ たまごのパック
tamago pakku



⑤ CD



⑥ おむつ
omutsu



⑦ かん
kan



⑧ フライパン
furaipan



⑨ びん
bin



⑩ なまごみ
namagomi



⑪ かんてんち
kandenchi



⑫ ぎゅうにゅうパック
gyuunyuu pakku



スーパーで回収してくれるごみはどれですか。

سپر مارکیٹ میں کس قسم کا کچرا اکٹھا ہوتا ہے۔

トレイや容器はきれいに洗って出しましょう。

ٹرے اور کنٹینرز کو ٹھکانے لگانے سے پہلے اچھی طرح دھولیں۔



ری سائیکل کی نشانی تلاشنا **ری سائیکل مارک** کو ساگاشما

کونائو ریسائیکل مارک اٹھائو اے۔ مارک کو دیکھو، کچرو کو بھانپو
سھو۔

ری سائیکل کے نشانات پروڈکٹ کی پیکجنگ پر چسپاں ہیں۔
نشانے کے حساب سے کچرے کو الگ الگ کریں۔



پٹبوتل
pettobotoru



کامی
kami



ارمی
arumi



سٹیئر
suchiiru



پراسٹک
purasuchikku



کامی پاک
kami pakku



A : پراسٹک مارک اے ارماسکا۔

B : ہائے، ارماسو۔ / ائیے، ارماسن۔

A : Prasuchikku maaku ga arimasuka.

B : Hai, arimasu. / Iie, arimasen.



2. わからないとき ^{ひと}人に ききます سمجھ نہ اے تو کسی سے پوچھ لیں

گچرے کو الگ کرنے کا طریقہ پوچھنا گچرے کو الگ کرنے کا طریقہ پوچھنا

A : すみません、おむつは もえるごみ ですか。

B : はい、そうです。

A : わかりました。ありがとうございます。

A : Sumimasen, omutsu wa moeru gomi desuka.

B : Hai, soodesu.

A : Wakarimashita. Arigatogozaimasu.



A : すみません、かんでんちは もえるごみ ですか。

B : いいえ、もえないごみ です。

A : わかりました。ありがとうございます。

A : Sumimasen, kandenchi wa moeru gomi desuka.

B : Iie, moenai gomi desu.

A : Wakarimashita. Arigatogozaimasu.

いつ ごみを だすか ききます
معلوم کرنا کے کچرا کب نکالنا ہے



まいしゅう
每週 maishuu
پر ہفتہ
ようび
曜日 yoobi
دن



あさ
朝 asa صبح

A : すみません、もえるごみ は いつ だしますか。
B : げつようび と もくようび です。
あさ 5じ から 8じ までに だします。
A : わかりました。ありがとうございます。

A : Sumimasen, moeru gomi wa itsu dashimasuka.
B : Getsuyoobi to Mokuyoobi desu.
Asa 5 ji kara 8 ji madeni dashimasu.
A : Wakarimashita. Arigatoogozaimasu.

だれが ごみおきばを そうじしますか。
کچرا پھینکنے کی جگہ کو کون صاف کرتا ہے۔



3.

ごみを ^だ出します
کچرا نکال کر رکھنا

گرمیوں کے قوانین کو سمجھنا
گرمیوں کے قوانین کو سمجھنا



آپ کے شہر کے کچرا کے اصول کو لکھیں۔
آپ کے شہر کے کچرا کے اصول کو لکھیں۔

<p>1. دو کوئی گرمیوں کو دے سکتے ہیں۔ Dokoni gomi o dashimasuka.</p>	
<p>2. کبھی گرمیوں کو دے سکتے ہیں۔ Itsu gomi o dashimasuka.</p>	<p>بھونکنے والی گرمی moeru gomi</p> <p>بھونکنے والی گرمی moenai gomi</p> <p>پلاسٹک prasuchikku</p> <p>کان، بکری، پت بوتل kan·bin·pettobotoru</p>
<p>3. کبھی گرمیوں کو دے سکتے ہیں۔ Nanji ni gomi o dashimasuka.</p>	
<p>4. کہاں گرمیوں کو دے سکتے ہیں۔ Dokode gomibukuro o kaimasuka.</p>	

آپ کے شہر کے کچرا کے قوانین ایک جیسے ہیں۔ کیا یہ مختلف ہے۔
آپ کے شہر کے کچرا کے قوانین ایک جیسے ہیں۔ کیا یہ مختلف ہے۔

こんなとき どうしますか。

اس صورت میں کیا کریں گے۔

きょうは燃えないごみの日です。あなたはドライヤーを袋に入れずに出しました。近所の人が見て注意しました。あなたは何と言いますか。

آج نہ جلنے والے کچرے کا دن ہے۔ آپ نے ہیئر ڈرائر کو بیگ میں ڈالے بغیر ڈال دیا۔ ایک پڑوسی نے آپ کو دیکھا اور آپ کو توجہ دلائی۔ آپ اسے کیا کہیں گے۔



A : おはようございます。

B : おはようございます。あっ、ドライヤーを すてますか。

A : はい。

B : じゃ、もえないごみのふくろに いれなければなりませんよ。

A :

A : Ohayoogozaimasu.

B : Ohayoogozaimasu. A, doraiyaa o sutemasuka.

A : Hai.

B : Ja, moenaigomi no fukuro ni irenakereba narimasenyo.

A :

ごみについて ちゅういされたことが ありますか。

کیا آپ کو کبھی کسی نے کچرے کے بارے میں خبردار کیا ہے۔

しつもの ことば

سوالیہ جملے

ぎもんし Gimonshi سوالیہ جملے

いつ itsu	کب	いつ ごみを だしますか。 <u>Itsu</u> gomi o dashimasuka. کب کچرا پھینکتے ہیں۔
どこ doko	کہاں	どこに ごみを だしますか。 <u>Doko</u> ni gomi o dashimasuka. کچرا کہاں پھینکتے ہیں۔
だれ dare	کون	だれが ごみを だしますか。 <u>Dare</u> ga gomi o dashimasuka. کچرا کون پھینکتا ہے۔
なん nan	کیا	これは <u>なん</u> ですか。 Kore wa <u>nandesuka</u> . یہ کیا ہے۔
なに nani	کیا	<u>なに</u> を すてますか。 <u>Nani</u> o sutemasuka. کیا پھینکتے ہیں۔
どうして dooshite	کیوں	どうして ごみを わけますか。 <u>Dooshite</u> gomi o wakemasuka. کچرا کیوں الگ الگ کرتے ہیں۔

ようび
دن

げつようび Getsu yoobi پير	きんようび Kin yoobi جمعہ
かようび Ka yoobi منگل	どようび Do yoobi ہفتہ
すいようび Sui yoobi بدھ	にちようび Nichi yoobi اتوار
もくようび Moku yoobi جمعرات	なんようび Nan yoobi کون سا دن



水曜日

すいようび

بدھ

1・3 金曜日

1・3 きんようび

جمعہ اور تیسرا پہلا

